

26. ALSYU'ARA' (PENYAIR-PENYAIR)

Suet ke-19: 227 ayat

Ngen sembut gen Allah De Maho
Pengasiak, Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. *Thaa siim miim.*

طَسَمَ ﴿١﴾

2. Dioba ayat Qur'an di tem'ang.

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾

3. Buleak jiji Muhammad cemplakokan
kumu, karno tobo' o coa beimen.

لَعَلَّكَ بَمِخْلَجٍ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

4. Kaleu keme bekelak niscayo keme
temu'un samo tobo'o mu'jizat kunai
Lenget, mako senantiaso tukuk-tukuk
tobo'o tunduk samone.

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ
أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٤﴾

5. Lajeu debat-debat coa neko ngen tobo'o
suatu peringatan bel'eu kunai Tuhan gi
maho pemue'ak, meleyenkan tobo'o
galak berpaling kunai ne.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا
عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾

6. Nien tobo'o galak mengi'ke (Al Qur'an)
mako tegoa igei neko ngen tobo'o
(kenyataan kunai) berita-berita gi galak
tibo'o molok ne.

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبُؤُهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾

7. Lajeu jano ba tobo'o coa manek nak
denyo, kedeu ne keme temo'a nak denio
o kedeu mencem tumbuhan gi baik?.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ ﴿٧﴾

8. Sesungguh ne gi demikian ne benea-
benea terdapat suatu kekuasaan Allah dan
kebanyakan tobo'o coa be imen.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

9. Dan sesungguh ne Tuhan kumu o benea-
benea sib a gi Maha Gerot igei Maha
Pemue'ak.














وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

10. Dan (tinget ba) ketiko Tuhan mu nyeru
Musa (ngen firman ne):"temeko ba gi
zalim o".

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

﴿١٠﴾

11. (Yaitu) kaum Fir'aun. Bene tobo'o coa bertaqwa?
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۗ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾
12. Musa miling:"Ya Tuhanku, sungguh ne uku saben bahwa tobo'o lak mendustakan uku.
 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾
13. Dan (karno ne) sepi ba dadoku dan coa lace'a ba dileak ku mako utus ba jibril ngen Harun.
 وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ ﴿١٣﴾
14. Lajeu uku beduso ngen tobo'o, mako uku saben tobo'o lak mono'ak uku.
 وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾
15. Allah berfirman:"jibeak saben (tobo'o coa giklak monoak kumu), jije laleu ba kumu bedue ngen mbin-mbin ayat-ayat keme (mu'jizat-mu'jizat); sebene'a ne keme besamo kumu temengoa (jano-jano gi tobo'o madeak).
 قَالَ كَلَّا ۗ فَاذْهَبَا بِعَايَتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾
16. Mako neko ba kumu beduei ngen Fir'aun lajeu kade'ak ba ngen kumu: sungguh ne keme adeba Rasul Tuhan semesta alam.
 فَآتِيَا فِرْعَوْنَ ۖ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾
17. Nelpas la Bani Israil (lalue) beserta keme.
 أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾
18. Fir'aun miling:"bukankah keme sudo mengasuh nak antaro (keluargo) keme, wakteu kumu mase'ak titik dan kumu tingga samo keme beberapa tahun kunai omor nu.
 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾
19. Dan kumu bi menea suatu perbuatan gi kumu lakukan do'o guna membalas guno.
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾
20. Musa miling:"uku sudo melakukan ne, sedang uku wakteu o termasuk tun-tun kafir.
 قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾
21. Lajeu uku melilei teminga kumu ketiko uku saben ngen kumu, laje'au Tuhanku melie ngen uku ilmeu lajeu si menea uku salah satu nak antaro rasul-rasu.
 فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾
22. Budei gi kumu limpahkan ngen uku do'o (disebabkan) kumu sudo memperbudak
 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Bani Israil.	
23. Fir'aun temanye': "api Tuhan semesta alam do'o?".	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ 
24. Musa jemawab: Tuhan pencipta lenget ngen denio gen jano-jano nak antaro keduei ne (do'o ba Tuhannu), kaleu udi kete (tun-tun) mempercayo'i ne.	قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ 
25. Fir'aun madeak ngen tun-tun sekeliling ne: "jano udi coa temengoa".	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ 
26. Musa madeak (pulo): "Tuhan kumu ngen Tuhan ninik-ninik puyang meno'o.	قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ 
27. Fir'aun madeak: "sebeneane Rasul kumu gi nutus ngen kumu ketene benea-benea tun gilo".	قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ 
28. Musa mdeak: "Tuhan gi megong timur ngen barat ngen gi ade antaro keduei ne: (do'oba Tuhannu) kaleu kumu mase'ak gemuno aka".	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 
29. Fir'aun madeak: sungguh kaleu kumu sembe'ak Tuhan seleyen Uku temunjuk ngen kumu sesuatu (keterangan) gi nyato?".	قَالَ لَئِن آتَّخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
30. Musa madeak: " lajeu jano (kumu lak menea do'o, kaleu kumu adalah termasuk tun-tun gi benea".	قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ 
31. Fir'aun madeak: "tekoba (keterangan)gi nyato do'o, kaleu kumu adalah tun-tun gi benea".	قَالَ فَاتِّبِعْهُ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 
32. Mako Musa mating tokotne, lajeu tibotibo tokot o (jijei) Dung gi nyato.	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ 
33. Dan si temarik tangen ne (kunai lem bajeu ne), lajeu tangen ne jijei peteak (bersinar) bagi tun-tun manek ne.	وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ 
34. Fir'aun madeak ngen pembesar-pembesar gi ade nak sekeliling ne: sebenea ne Musa yo benea-benea ahli sihir gi padek.	قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ 
35. Si lak musir kumu kunai negerei kumu	يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا

dewek ngen sihir ne; lajeu kerno do'o api gi kumu lak megeak ne.	تَأْمُرُونَ ﴿٢٦﴾
36. To bo' o jemawab: "dami kile'ak (urusan) si ngen sepaso'ak nemesba may seluruh negerey udi gi lak kemo'poa (ahli sihir).	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٢٧﴾
37. Niscayo nelo'ak neko ahli sihir gi padek o neko ngen kumu.	يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾
38. Lajeu kenopoa' ba ahli-ahli sihir ngut wakteu gi nelo'ak.	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٩﴾
39. Lajeu nde'ak tun deu: kopo'a ba kumu kete-kete ne.	وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٠﴾
40. Semoga ite gi temoto'a tun pitar kaleu tobo'o adeba tun-tun gi menang.	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٣١﴾
41. Lejeu tatkala ahli-ahli sihir teko, tobo'o betanye ngen Fir'aun: jano keme nien-nien dapet upe'ak gi lei kaleu keme adeba tun-tun gi menang.	فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَا أَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٣٢﴾
42. Fir'aun miling: au, amen awe o, sesungguh ne kumu sekalian bene'a-bene'a lak jijeji tun gi pa'ak ngen (uku).	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٣٣﴾
43. Miling ba Musa ngen tobo'o: kating ba jano klak ko kating.	قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٣٤﴾
44. Lajeu tobo'o mating tilei-tilei ngen tokot-tokot tobo'o lajeu miling: "demi kuaso Fir'aun, sesungguh ne keme benea-benea lak menang".	فَأَلْقُوا حِبَاهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾
45. Mako Musa mating tokot ne lajeu si temlen bendo-bendo palsu go tobo'o mene'a-mene'a.	فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٣٦﴾
46. Mako us ba ahli-ahli sihir lajeu besujud (ngen Allah).	فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿٣٧﴾
47. Tobo'o miling: keme be'imen ngen Tuhan semesta alam.	قَالُوا ءَأَمْنَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٨﴾
48. (Do'o) Tuhan Musa ngen Harun.	رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٣٩﴾
49. Fir'aun miling: jano kumu kete'ne	قَالَ ءَأَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ

<p>be'imen ngen sebelum uku mage'ak izin ngen kumu? Sesungguhnya si bene'a-bene'a pemimpin gi maje'a sihir ngen kumu lajeu keme nien bene'a-bene'a namen (akibat ule'ak kumu); sesungguhnya uku lak temtok tangen nu ngen kekea nu nesilang lajeu uku lak semalib udi kete-kete'ne.</p>	<p>لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمَلُونَ لَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلْفِ وَأَصْلَبَنَّاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٤﴾</p>
<p>50. Tobo'o miling: coa ade kemudharatan (bagi kaum), sesungguhnya keme belek ngen Tuhan keme.</p>	<p>قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٤٥﴾</p>
<p>51. Sesungguhnya keme lak nien do'o bahwa Tuhan keme lak mengampuni sale'ak keme, kerno keme adeba tun gi petamoto-tamo beimen.</p>	<p>إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾</p>
<p>52. Lajeu keme wahyukan (perinte'ak) ngen Musa: "laleu ba kelmen be samo min hamba-hambaku (Bani Israil), kerno sesungguhnya kumu be ade gi temoto'a".</p>	<p>﴿٤٧﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي مِنْكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٤٨﴾</p>
<p>53. Lajeu Fir'aun kemirim tun gi kemopo'a (tentrane) nak kota-kota.</p>	<p>فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٤٩﴾</p>
<p>54. (Fir'aun miling): sesungguhnya tobo'o (Bani Israil) bene'a-bene'a golongan gititik.</p>	<p>إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٠﴾</p>
<p>55. Ngen kembang net obo o sudo menea hal-hal gi' temimoa mengiak ite.</p>	<p>وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥١﴾</p>
<p>56. Ngen kembang ite kute-kute tanpa kecuali, lok terus waspada.</p>	<p>وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٥٢﴾</p>
<p>57. Sudo o keme kemelueakan tobo Fir'aun ngen kaum kunai taman-taman ngen matai bioa.</p>	<p>فَأَحْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٣﴾</p>
<p>58. Ngen kunai harto kekayaan ngen kedudukan gik mulyo.</p>	<p>وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٤﴾</p>
<p>59. Do'oba hal ne ngen keme anugrahan kute ne ngen Bani Israil.</p>	<p>كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٥﴾</p>
<p>60. Sudo o, ketiko duei golongan o saling dapet menyosoa tobo o waktau matai bilai terbit.</p>	<p>فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٥٦﴾</p>
<p>61. Sudo o, ketiko duei golongan o saling kemliak, nadeak neb a (kuwat-kuwat</p>	<p>فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا</p>

Musa): “kembali ne ite benea-benea akan tesusul”	لَمُدَّرْكَونَ ﴿٦١﴾
62. Si (Musa) menjawab: “sekilei-kilei coa kan (nyusul) kembial ne Tuhan ku besamoku, Si (Tuhan) akan melie petunjuk ngen uku”.	قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾
63. Sudo o, Keme wahyukan ngen Musa:”Nemas ba Laut o ngen tokot nu” maka terbelahlah laut o, ngen tiep belahan ne awie Gunung gi’ lai.	فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾
64. Ngen nak diba keme paok’kan golongan gi luyen.	وَأَرْزَلْنَا ثَمَّ الْأَخْرِبِينَ ﴿٦٤﴾
65. Ngen Keme temulung Musa ngen tun-tun gi’ besamo ne.	وَأَخْبَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾
66. Ngen Keme menem golongan go’ luyen.	ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِبِينَ ﴿٦٦﴾
67. Kembali ne pada gi’ sudo o dapet suatu tano (kekuasaan Tuhan), tapi dik dau net obo o coa be imen.	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾
68. Ngen kembali ne Tuhan cumin Si oba gi’ Maho perkaso, Maho Penyayang.	وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾
69. Ngen nebaco bat obo o cerito Ibrahim	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾
70. Ketiko si (Ibrahim) madeak ngen bapak ne ngen kaum ne:Janoba gi’ udi sembeak?.”	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾
71. Tobo o jemawab: “keme sembeak berhala-berhala ngen keme senantiasa tekum sembeak ne”.	قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةَ ﴿٧١﴾
72. Si (Ibrahim) madeak: “Jano tobo o (berhala-berhala) temi’uk du’o udi waktau udi bedu’o (ngen si)?.	قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾
73. Atau dapetkah tobo o melie maaat ngen udi atau melie celako ngen udi?.	أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾
74. Tobo o jemawab:”(coa). Tapi keme dapet kunai ninik muyang keme menea awei o”.	قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾
75. Ibrahim madeak:”Jano udi kemliak gi’ udi sembeak.	قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾
76. Udi ngen ninik muyang udi gi’ bel o?	أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ﴿٧٦﴾

77.	Karno kembang ne jano gi' udi sembeak o adeba musuak ku, kecuali kute alam.	فَأَيُّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾
78.	(Yaitu Tuhan) gi' sudo menea uku, maka Siba gi' melie petunjuk ngen uku.	الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾
79.	Ngen gi' melie mie ngen bioa ngen uku.	وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾
80.	Ngen gidong uku sakit, Siba gi' kemaen uku.	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
81.	Ngen gi' munuak uku, sudo o midup uku (igai).	وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ نُحْيِينِ ﴿٨١﴾
82.	Ngen gi' sangat kenlak ku akan mapan saleak ku pada bilei kiamat”.	وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾
83.	(Ibrahim bedu'o): “Ya Tuhan ku, nelie ba uku hikmah ngen masukkan uku nak lem golongan tun-tun gi' shaleh,.	رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾
84.	Ngen nea ba uku buak tutur gi' baik bagi tun-tun (gi' teko) sudo o,.	وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾
85.	Ngen nea ba uku termasuk tun-tun gi' mewarisi Surgo gi' penuak keni'matan,	وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾
86.	Ngen napun ba bapakku, karno kembang ne si termasuk golongan tun-tun gi' sesat,.	وَأَعْفِرْ لِي إِنِّي أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾
87.	Ngen jibeak ba Engkau menghino uku pada bilai tobo o dibangkitkan,.	وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾
88.	(Yaitu) nak bilai harto ngen anak-anok semanie coa de guno,.	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾
89.	Kecuali tun-tun gi' madep Allah ngen atie gi' bersih.	إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾
90.	Ngen (nak bilai o)paok ba surgo ngen tun-tun gi' bertaqwa,.	وَأَزَلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾
91.	Ngen diperlihatkan Nerako Jahim ngen jelas, ngen tun-tun gi' sesat,.	وَبُرِّرَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾
92.	Ngen tobo o nadeak: “ nak ipe berhalaberhal gi' bel o kumu sembeak,.	وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾

93. Selain kunai Allah? Dapatkah tobo o temulung udi atau temulung awak obo o dewek?,
 94. Maka tobo o (sembeak-sembeak o) jenukit nak lem nerako besamo-samo tun-tun gi' sesat,.
 95. Ngen bala tentara Iblis kutene,.
 96. Tobo o madeak sambil blago nak lem nerako,.
 97. "Demi Allah kembiak ne ite bel o (nak dunio) lem kesesatan gi' nyato,.
 98. Karno ite menyamokan (berhala-berhala) ngen Tuhan semesta alam".
 99. Ngen coa baa de gi' menyesatkan ite kecuali tun-tun gi' beduso,
 100. Maka keme coa temeu tun dlai pun gi' melie syafa'at.
 101. Ngen coa pulo temwan kuwat gi' akrab,
 102. Maka skiro ne ite dapet belek debat igai (moi dunio), niscaya keme jijai tun-tun gi' beriman".
 103. Kembiak ne pada gi' sudo o terdapat tano-tano (kekuasaan Allah), tapi gi' dau net obo o coa beriman.
 104. Ngen kembiak ne Tuhan nu cumin Sib ba gi' Maha Perkasa ngen Maha Penyayang.
 105. Kaum Nuh sudo mendustakan (coa pecayo) ngen para Rasul.
 106. Ketiko spasoak tobo o, nuh madeak ngen tobo o: "gentai usi bertaqwa?
 107. Kembiak ne uku adeba Rosul kepercayaan (gi' nutus) untuk nu,.
 108. Maka bertaqwa ba kepada Allah ngen
- مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿١٣﴾
 فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوِرَ ﴿١٤﴾
 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿١٥﴾
 قَالُوا وَهُمْ فِيهَا تَخْتَصِمُونَ ﴿١٦﴾
 تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾
 إِذْ نَسَوَيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾
 وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿١٩﴾
 فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿٢٠﴾
 وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿٢١﴾
 فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٤﴾
 كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥﴾
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٦﴾
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٢٧﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٢٨﴾

	ta'at ba ngen uku".	
109.	Ngen uku sekilei-kelei coa minai upeak ngen nu atas ajakan-ajakan o, upeak ku coa luyen hanya ba kunai Tuhan semesta alam.	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٩﴾
110.	Maka betaqwa ba ngen Allah ta'at ba ngen uku".	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ ﴿١٢٠﴾
111.	Tobo o madeak:"awie ipe uku namen jano gi' sudo o kerjokan?	﴿١٢١﴾ قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ ﴿١٢١﴾
112.	Nuh jemawab: "awie ipe uku namen jani gi' sudo tobo o kerjokan?.	﴿١٢٢﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾
113.	Perhitungan (amal perbuatan) tobo o coa hanya ba ngen Tuhan ku, amen kumu sadar.	﴿١٢٣﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوَ تَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾
114.	Ngen uku sekilei-kilei coa akan nusir tun-tun gi' beriman.	﴿١٢٤﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٤﴾
115.	Uku (yo) coa luyen hanya melie peringatan gi' jelas".	﴿١٢٥﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٢٥﴾
116.	Tobo o madeak: "kembaliak ne amen ko coa (lok0 badan hoi Nuh, niscaya ko akan termasuk tun gi' nerajam (neluk butau supei matei)".	﴿١٢٦﴾ قَالُوا لَيْن لَّمْ تَنْتَهَ يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١٢٦﴾
117.	Nuh jemawab: " Ya Tuhan ku, kembaliak ne kaum ko sudo mendustakan uku;	﴿١٢٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١٢٧﴾
118.	Karno o nelie ba keputusan antaro uku ngen antaro tobo o, ngen tulung ba uku ngen tun-tun gi' mukmin besamo ku.	﴿١٢٨﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٨﴾
119.	Makeak keme semameat Nuh ngen tun-tun nyo keteane naklem kapal ndek dew muatan ne.	﴿١٢٩﴾ فَأَنْجِنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٢٩﴾
120.	Udem yo kemi tenggelamkan tun-tun ndek tingga.	﴿١٣٠﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٣٠﴾
121.	Sesungguhnya/sebenaeh ne ndek awo yo benea-enea dapt tando (kekuasaan Tuhan) tapi ndek dew net un coa beriman.	﴿١٣١﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣١﴾

122. Dan sebeneahne Tuhan ko ba nyo Maho Perkaso igey Maho penyayang. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾
123. Kaum Ad ndek mendustakan para Rasul. كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾
124. Wakteu sepasoak Hud ngen tun-tun “bekne kumu coa bertaqwa?”. إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾
125. Sebeneah ne uku suang Rasul kepercayaan ne (ndek ne utus) ngen kumu. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾
126. Makeak bertaqwalah ngen tuhan makeak taat kulo ngen uku. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾
127. Dan tegoa-tegoa uku coa bageak upeak ngen kumu, iney igey lak mileu mageah ko, upeak uku coal eyen semato-mato karena Tuhan ngen semesta alam. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾
128. Jano gen kumu mendirikan gidong tiep-tiep taneak lekat bangunan penan ite bejagak. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾
129. Dan kumu meneak benteng-benteng ngen maksud supayo kumu kekal (nak dunio). وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾
130. Dan apabila kumu ngikso, makeak ko nyikso sebagaiene tun-tun kejam ngen bengis. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾
131. Makeak bertaqwalah ngen Tuhan, ude myo taat kulo ngen uku. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾
132. Makeak bertaqwalah ngen Tuhan, nyo telah menganugrahkan ngen kumu jano nyo kumu nam. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾
133. Si telah menganugrahkan ngen kumu binatang-binatang ternak ude myo anak-anak. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾
134. Dan kebun-kebun/dumey-dumey ngen matobio. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾
135. Sebenaeh ne uku coa biney kumu lak/dank ditimpa azab, biley “ndek ley”. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾
136. Si jemawab: adalah serey bae bageak keme, janogen kumu bageak nasehat atau coa bageak nasehat. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

137. (Agama keme) yo coal eyen oba adapt kibiiasaan tun laleu/beleo ﴿١٣٧﴾
 138. Dan keme tegoa-tegoa coa akan di/nak "azab". ﴿١٣٨﴾
 139. Makeak mereka mendustakan Hud, lalew, keme binasakan mereka (kekuasaan Tuhan) tetapi ndek dewnw mereka coa beriman. ﴿١٣٩﴾
 140. Dan sebenaeh ne tuhan kumu, si oba maha perkasa igei maka penyayang. ﴿١٤٠﴾
 141. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasul-rasul. ﴿١٤١﴾
 142. Ketikeak sepasoak tubuyo mereka, Sholeh madeak ngen toboyo "janogen kumu coa bertaqwa". ﴿١٤٢﴾
 143. Sebenaeh ne uku suang rasul kepercayaan (ndeakne utus) ngen kumu ﴿١٤٣﴾
 144. Makeak bertaqwalah ngen Tuhan, makeak taat kulo ngen uku. ﴿١٤٤﴾
 145. Dan uku tegoa-tegoa, coa bageak upeak ngen kumu inegey lak milew ngen ko/atas ajakan itu, upeak uku coa leyan semato-mato kaena than semesta alam. ﴿١٤٥﴾
 146. Adekah kumu dibiarkan tingga nak yo (nak negeri kumu yo) ngen aman. ﴿١٤٦﴾
 147. Nak lem dumey-dumey serto matei Bioa. ﴿١٤٧﴾
 148. Dadn tanem-taneman ngen pohon-pohon kurmanyo mayang ne lembut. ﴿١٤٨﴾
 149. Dan kumu pahat sebageakne nak gunung-gunung untuk dijejeykan umeak-umeak ngen rajin. ﴿١٤٩﴾
 150. Makeak bertaqwalah ngen Tuhan, makeak taat ngen uku. ﴿١٥٠﴾
 151. Dan jibeak ba kumu mantaati perintah tun-tunnyo melewati batas. ﴿١٥١﴾
 152. Nyo meneak kerusakan, yo muko taneak, udem yo coa mengadakan perbaikan. ﴿١٥٢﴾
 153. Mereka madeak: sebenaeh ne kumu adalah saleak suang dari tun-tunnyo keno ﴿١٥٣﴾

sihir.




154. Kumu coal eyen meleyenkan suang manusio seperti keme, mako datangkanlah sesuatu mu'jizat jikeak kumu memang termasuk tun-tunyo beneak. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾
155. Sholeh menjawab, yo delai Unta betina, si mempunyai giliran untuk mendapatkan bio, dan kumu mempunyai giliran kulo untuk mendapatkan bio di biley nyo tertentu. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ هَا شَرِبَ وَلَكُمْ شَرِبَ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾
156. Dan jibeak ba kumu sentuh unta betina itu ngen sesuatu kejahatan, nyo menyebabkan kumu lak ditipeak azab oleh biley nyo ley. وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾
157. Udemnyo mereka nonokne, lalew mereka jizei menyosal. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾
158. Makeak mereka ditepeak azab, sebenach ne pada nyo demikian itu benea-benea terdapat buktinyo nyata dan adalah ndek ley ne mereka coa beriman. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾
159. Dan sebenach ne Tuhan ko benea-benea si oba, nyo Maho Perkasa igey Maho Penyayang. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾
160. Kaum Luth telah mendustakan/ mencelakokan Rasul-Rasul. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾
161. Ketikeak sepaosak mereka Luth madeak ngen mereka: beakne kumu coa bertaqwa. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾
162. Sebeneah ne uku adalah suang Rosul kepercayaan ne (nyo diutus) ngen kumu. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾
163. Makeak bertaqwalah ngen Tuhan dan taat kulo ngen uku. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾
164. Dan uku tegoa-tegoa coa bageak lak upeak ngen kumu inegey lak milew ngen ko upeak uku coa leyan semato-mato karena Tuhan semesta alam. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾
165. Baikne kumu mendatangi jenis lelaki di أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

- antara manusio.
166. Dan kumu meningga nyo jijey ne oleh Tuhan ko, untuk ko bahkan kumu adalah tun-tun nyo melampaui batas.
167. Mereka jemawab: hai Luth sebenaehne jikkeak kumu coa beretey benea-benea kumu termasuk tun-tun di nusir.
168. Luth madeak: “sebenaeh ne uku sangeat bencey ngen perbuatan kumu”.
169. (Luth berdo'a) ya Tuhanku semamatkan ba uku beserto keluargo uku dari (akibaet) perbuatan nyo tobo o/ mereka kerjakan.
170. Lalew keme semamatkan si beserta/bekete keluargane kete
171. Kecuali suang perempuan tuwi (isterine) nyo termasuk naklem golongannyo tingga.
172. Udemnyo meme binasokan nyo leyen.
173. Dan keme ujeani tubo yo /mereka ngen ujean (butew) mako amat kideakne ujean nyo menipeak tun-tun nyo telah neley/ diberi peringatan yo.
174. Sebenaeh ne padea nyo demikian yo benea-benea terdapat buktey-bukteyny nyato dan adalah/adeba dew nien mereka coa beriman.
175. Dan sebenaeh ne Tuhan ko benea-benea si oba nyo maha perkasa lagi maha penyayang.
176. Penduduk Aikah telah mendustakan Rasul-Rasul.
177. Ketikeak Syua'aib madeak ngen mereka: “Baekne kumu coa bertaqwa?”
178. “Sebenaehne uku adalah Rasul kepercayaan (ndek ne utus) ngen kumu.
179. Karno'o saben ba magea Allah gen
- وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾
- قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾
- قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾
- رَبِّ نَجِيٍّ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾
- فَتَجِيئُهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾
- إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٧١﴾
- ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٧٢﴾
- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿١٧٣﴾
- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾
- وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾
- كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾
- إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾
- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾
- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧٩﴾

tenatoa ba uku.	
180. Uku coa minai upeak kunei ko atas ku, upeak kua coa layen Cuma kunei Tuhan semesta alam.	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾
181. Sempurnakan ba sukatan ngen damiba udi kemuang ne.	﴿١٨١﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾
182. Tnimang ba (suatu barang) ngen timbangan (neraca) gik benea.	﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾
183. Damiba udi kmuang hak manusio ngen dami pulo menea bencana nak muko bumei.	﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾
184. Saben ba magea gik udi ngen (menea) makhluk-makhluk wakteu o.	﴿١٨٤﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيلَةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾
185. Tobo'o madeak do'o ko yo Cuma suang gik keno sihir.	﴿١٨٥﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿١٨٥﴾
186. Ko coal eyen Cuma manusio seumpama keme, sungguh keme sako ko tu gik dusta.	﴿١٨٦﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾
187. Karno'o cnuceaba nak das keme lenget'o detok-detok amen ko tun gik benea.	﴿١٨٧﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾
188. Nadeak Syu'aib: Tuhan ke lebeak namen jano jano gik udi kerjokan.	﴿١٨٨﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾
189. Sudo'o si mendusta ne, kemudian tobo'o keno sikso nak bilai bernaung (nak beak awan) sesunggu ne demikian o sikso bilei gik lei.	﴿١٨٩﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾
190. Sesungguh ne tenang demikian o suatu tano. Tetapi deune tobo'o coa lak berimen.	﴿١٩٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾
191. Sesungguh Tuhan nu Maha Perkaso igei Pengasih.	﴿١٩١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾
192. Sesungguh ne Qur'an tnuun oleh Tuhan semesta alam.	﴿١٩٢﴾ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾

193. Tnuun oleh ruh suci (Jibril). نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾
194. Mai lem atie nu (Ya Muhammad) supaya ko malie peringatan. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾
195. Ngen bahasa Arab gik teang. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾
196. Sebenea ne Qur'an (ade tekadeak) nak lem kdeu-kdeu kiteb tun-tun wakteu'o. وَإِنَّهُ لَفِي زُرِّي الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾
197. Coa cukuplah jjei keterangan utuk tobo'o bahwa ulama-ulama Bani Israil namen demikian o?. أَوْلَمْ يَكُنْ هُمْ ءَايَةً أَنْ يَعْلَمَهُرُ غُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾
198. Kaleu skiro ne keme tuunkan Qur'an megeak setengeak tun' agam (150 Bahasa Arab). وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
199. Sudo nebecone magea tobo'o, niscayo tobo'o coa calak berimen megea si فَقرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِء مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾
200. Demikian ba keme sampie Qur'an mai lem atie tun-tun gik beduso. كَذَلِكَ سَلَكَنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾
201. Tobo'o coalak berimen magea si sehingga tobo'o kemleak sikso gik pelgeak. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِء حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾
202. Lalu sikso 'o menimpa tobo'o ngen tibo-tibo sedang tobo'o coa sadar. فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾
203. Lalu tobo'o madeak: dapetkah keme nageak tempo?. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
204. (Coa) beneakah tobo'o minai disegerakan sikso keme?. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾
205. Adekah ko kemleak, jika tobo'o keme semnangkan (karno temuan anak-anak ngen harto bendo gik deu) kdeu-kdeu taun anne. أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾
206. Kemudian tobo'o ditimpo (sikso) gik jnanyei magea si. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾
207. Mako coba bermanfaat jano gik menyenangkan tobo'o. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾
208. Keme coa membinasakan dlai negrei, meleyenkan (keme 'utus) utuk ne tun- وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا هَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

tun gik mageak peringatan.	
209. Utuk peringata ngen keme coade aniaya (magea tobo'o).	ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾
210. Isoba Qur'an tnuun oleh setan-set.an	وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾
211. Dan coa ae utuk tobo'o ngen tobo'o coa pulo berkuaso.	وَمَا يُبْغِي هُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾
212. Sesungguhne tobo'o terpiseak temngoa ne.	إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾
213. Karno'odemiba ko semeak Tuhan gik leyen bersamo Allah ba ko dapet sikso	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾
214. Nageak ba peringatan (pertakut) karib kratatnu gik terpaak.	وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾
215. Dan tenmeakba sayepnu (berhino direi ba) terhadap tun gik temotoa ko nak antaro tun-tun mukmin.	وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾
216. Jika tobo'o mike ko, klak ne nageak ba magea si: uku berlepas direi kunei jano gik udi kerjokan	فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِيءٍ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾
217. Dan tawakkal ba (bersereak direi ba) mageak gik maha perkaso igei pengasih.	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾
218. Gik kemleak ko ketiko ko tegak (semyang).	الَّذِي يَرِنَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾
219. Dan ketiko ko bolak balik nak lem tun-tun gik sujud (semyang).	وَتَقَلِّبَكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾
220. Sesungguh ne si Maha Temngoa igei Maha Namen.	إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾
221. Lakkah uku kabarkan magea ko, magea api syetan-syetan o tuun?.	هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ﴿٢٢١﴾
222. Si tuun magea tiap-tiap tun pembohong igei bduso.	تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾
223. Syetan-syetan o smapie pendengaran ne sedang deu nien tobo'o mngike.	يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾
224. Ahli-ahli syair (pantun) tnatoa oleh tun-tun gik bodong.	وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾

225. Coa ade ko kemleak, bahwa tobo'o berlebeak pado tiep-tiep lembah (perkataan).  أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
226. Sungguh tobo'o mageak jano gik coa ade tobo'o mnea.  وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
227. Kecuali tun-tun gik berimen ngen sholeh serto deu minget Allah ngen tobo'o dapet kemenangan sesudo teraniaya. Sudo'o akan namen un-tun gik aniaya mai plabei ipe tobo'o belek.  إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ